

- جرمنی میں ترکوں کے مقابلے میں گردوں کا رد عمل خاصا حوصلہ افزا ہے۔ ان بد نصیب لوگوں کے لیے ذمہ داری کا بوجھ محسوس کرنے والے ایسے کارکن ہمارے ہیں جو ایک ایسی جگہ جہاں قانونی یا سیاسی پابندیوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ان پر شہادت دے سکیں؟
- 5- مغربی دنیا میں ایسے گرد عیسائیوں کی تلاش اور تربیت جو گردستان کے لیے ریڈیو پروگرام تیار اور نشر کر سکیں۔ فی الحال اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کیا گیا۔
- 6- مستقبل میں مختلف گرد بولیوں میں بائبل کے ترجمے کی اہمیت کے پیش نظر متعلقہ بولیوں کے بارے میں محتاط ریسرچ۔ ڈبلیو بی ٹی اور سویڈن میں انٹرنیٹ ٹیوٹ برائے بائبل ٹرانسلیشن کیا اس اہم منصوبے میں دلچسپی نہیں لے سکتے؟
- 7- مغربی یورپ میں استعمال کے لیے متعلقہ رسم الخط میں معیاری عیسائی لٹریچر کی تیاری۔ گردستان میں ایسے لٹریچر کی تیاری کو تحریک کاری پر مبنی کیا جاسکتا ہے۔ آخر کیا وہ ہے کہ گرد زبان کے تمام لٹریچر میں کمیونسٹوں کی اجارہ داری ابھی تک برقرار ہے؟
- 8- گردستان میں وسیع پیمانے پر تقسیم کے لیے اچھی اور حساس ثقافتی موسیقی کے ساتھ مقدس تعلیمات پر مشتمل کیسٹوں کی تیاری۔ یہ کیسٹیں اپنے اثرات کے اعتبار سے اتنی ہی موثر ثابت ہو سکتی ہیں جتنی کہ آیت اللہ خمینی کی کیسٹیں، جو انہوں نے فرانس میں اپنی جلاوطنی کے دوران میں تیار کر کے ایران روانہ کیں۔

"اشتعال دلانے بغیر" وسطی ایشیا کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کا

منصوبہ

مغربی یورپ اور سوویت یونین کے عیسائی راہنماؤں نے حال ہی میں انگلینڈ کے کسی نامعلوم مقام پر اجلاس منعقد کیا۔ جس میں "سیح کی خاطر پورے سوویت یونین تک کیسے پہنچا جائے" کے موضوع پر غور و فکر کیا گیا۔ قابل توجہ امور میں زیادہ اہمیت کے حامل تین علاقے، وسطی ایشیا، قفقاز (کاکیشیا) اور سائبیریا تھے جہاں سب سے کم چرچ ہیں۔ عیسائی بن جانے والے ایک تاجک نے (جو پہلے مسلمان تھا) عیسائی راہنماؤں کو مشورہ دیا کہ وہ ایسے طریقے اور ذرائع اختیار کریں کہ جن سے وسطی ایشیا کی مسلم آبادی میں "اشتعال دلانے بغیر" تبدیلی مذہب کا عمل

جاری رہ سکے۔

سانسیریا کے مقررین نے "اجلاس کو بتایا کہ بہت سے اہل ایمان کے پاس ان کی اپنی زبان میں ہائیبیل نہیں ہے اور بہت سے روسیوں نے تقریباً پچاس زبانوں میں ہائیبیل کے ترجمے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ان زبانوں میں اب تک کوئی ترجمہ نہیں کیا گیا۔"

وائیکلف ہائیبیل ٹرانسلیٹرز KLYCLIFFE BIBLE TRANSLATORS نے ہائیبیل سوسائٹی آف دی سوڈت یونین کے تعاون سے ہائیبیل کے اصول ترجمہ کے سلسلے میں پہلے کورس کا اہتمام کیا ہے جو اگلے موسم گرما میں ماسکو میں منعقد ہوگا۔ "راہنماؤں نے اپنے منشور میں اعلان کیا ہے کہ "سوڈت معیشت کے مسائل کا واحد حل عیسائی اخلاقیات میں مضمر ہے۔" (رپورٹ۔ کرسمس بیر الٹ)

ملاوی کے مسلمانوں میں مذہب کی تبدیلی

گیری برمیبلوکی رپورٹ، جو پلس (PULSE) کے ایک حالیہ شمارے میں شائع ہوئی۔ اسے ہم ذیل میں من و عن شائع کر رہے ہیں۔

"دنیا کے اکثر حصوں میں ان ٹھک مشنری کوششوں کے باوجود بہت تھوڑے مسلمانوں نے مسیح کی جانب رجوع کیا ہے۔ تاہم گزشتہ دو سال کے عرصے میں ملاوی (افریقہ) کے یاؤ (YAO) قبیلے کے کئی سوا افراد نے عیسائیت قبول کی ہے۔ اس حیرت انگیز تبدیلی میں کسی مشنری خوش تبدیری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ یاؤ لوگوں کی زندگی میں یہ انقلاب زبردست خدا کی مداخلت کا مظہر معلوم ہوتا ہے۔"

مشنری ہر برٹ بیرنز، جو اب پیری گریجویٹ اسکول 3۔ بلز البرٹا میں پروفیسر ہیں، 1985ء سے 1988ء کے عرصے کے دوران میں یاؤ قبیلے میں کام کرتے رہے۔ ان کی خدمات ملاوی ییبٹھ کنونشن نے حاصل کی تھیں۔ اور انہوں نے جنوبی افریقہ کی ییبٹھ یونین کی جانب سے وہاں اپنا مشن چلایا۔

بیس لاکھ یاؤ جن میں سے نصف ملاوی میں رہتے ہیں، غلاموں کی تجارت کرنے والوں کی نسل سے ہیں۔ انہوں نے استعماری دور میں برطانیہ کے ساتھ تعاون کے بجائے اسلام قبول کرنا پسند کیا۔ مذکورہ تجارت کے خاتمے کے ساتھ ہی یاؤ لوگوں کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا۔ انہوں